

# ٹیلیفون اور موبائل فون کے استعمال کے آداب اور مسائل

<"xml encoding="UTF-8?>



## ٹیلیفون اور موبائل فون کے استعمال کے آداب اور مسائل

تحریر: فرحان فاروق

ٹیلی فون خصوصاً موبائل فون آج کے دور میں بماری روز مرہ زندگی کا ایک ضروری حصہ بن چکا ہے ، شاید بی کوئی ایسا ہو جو اس کے استعمال کا محتاج نہ ہو، حقیقت میں یہ جدید دور کی ان ایجادات میں سے ہے جن کی وجہ سے لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا ہوئی ہیں ۔ موبائل فون نے انسانوں کے درمیان باہمی رابطہ کاری کو آسان تر بنا دیا ہے ، دنیا کے ایک کونے میں بیٹھ کر دوسرے کونے میں اپنے عزیزوں اور دوستوں سے بات چیت ممکن ہو گئی ہے بلکہ اب تو ایک دوسرے کو دیکھنا بھی ممکن ہو گیا ہے ، اسی فون کی بدولت کاروباری معاملات میں بھی بہت آسانیاں پیدا ہوئی ہیں ۔ ظاہر ہے ہر نئی ایجاد کے مثبت پہلو بھی ہوتے ہیں اور منفی بھی ، اس کا اصل دار و مدار استعمال کرنے والے پر ہے۔ جس طرح انسان سماج سے جڑی دیگر چیزوں کے اصول و ضوابط اور اداب ہوتے ہیں اسی طرح ٹیلی فون اور موبائل فون استعمال کرتے ہوئے بھی بعض اصولوں اور آداب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے تاکہ جو چیز انسانوں کی سہولت کی خاطر بنائی گئی ہے وہ ایک دوسرے کی ایذا رسانی کا سبب نہ بن جائے ۔ ذیل میں ہم ٹیلی فون اور موبائل فون سے متعلق کچھ آداب کا ذکر کرتے ہیں ۔

\*بات شرع کرنے سے پہلے السلام علیکم کہنا ۔

\* اگر پہلے سے تعارف نہ ہو تو فون کرنے والا پہلے اپنا تعارف کروائیں کہ میں فلاں ہوں، فلاں جگے سے بات کر رہا ہوں ۔

\* جس کو فون کیا ہے اس کے آرام اور مصروفیت کے اوقات کا خیال رکھنا چاہیئے، اسی طرح نماز کے اوقات کا بھی خیال رکھنا چاہیئے، اور اگر آرام یا مصروفیت کے اوقات معلوم نہ ہوں تو بات کرنے سے پہلے پوچھ لیں۔

\* اس انداز میں بات کرنا کہ سامنے والے کو سمجھنے میں دشواری نہ ہو، یعنی ٹھہر ٹھہر کر گفتگو کرنا ، اسی طرح موبائل پر بات کرتے ہوئے اس بات کا دھیان رکھنا کہ سگنل کم ہونے کی وجہ سے دوسری طرف والے کو بات

سمجهنے میں دشواری نہ ہو۔

\* اگر لمبی بات کرنی ہو تو اس کی پہلے سے اجازت لے لینا کہ فلاں سلسلہ میں بات کرنی ہے یا اتنی دیر بات کرنی ہے، البتہ اگر پہلے سے بات ہوئی ہو کہ فلاں وقت اس سلسلہ میں رابطہ ہو گا تو یہ اجازت بھی کافی ہے۔

\* اگر سامنے والا مصروفیت بنائے اور بعد میں بات کرنے کو کہے تو اس کو برا نہیں ماننا چاہیئے اور نہ ہی اس کو متکبر سمجھنا چاہیئے۔

\* فالتو اور غیر ضروری گفتگو سے احتراز کرنا۔

\* گفتگو میں نرم اور شائستہ لرجه اختیار کرنا، البتہ نامحرم سے گفتگو کے وقت لوج والا لرجه اختیار نہیں کرنا چاہیئے۔

\* اگر سامنے والا لمبی بات کر رہا ہو تو سننے والے کو وقفہ وقفہ سے اپنی موجودگی کا احساس دلاتے رہنا چاہیئے، مثلاً جی ہاں! یا ہوں! وغیرہ الفاظ کے ساتھ، تاکہ اس کو تشویش نہ ہو کہ کہیں لائے تو نہیں کٹ گئی یا آپ اس کی بات توجہ سے نہیں سن رہے۔

کال ریکارڈ اور اسپیکر آن کرنے سے پہلے اجازت

\* اگر کال ریکارڈ کرنی ہو تو سامنے والے کو اس کی اطلاع کر دینا، دوسرے کی اجازت کے بغیر کال ریکارڈ کرنا صحیح نہیں۔

\* اسی طرح اگر بات کرتے ہوئے اسپیکر آن کیا تاکہ پاس والا شخص بھی گفتگو سن لے تو ایسی صورت میں دوسری طرف لائے پر موجود شخص کو بتا دینا چاہیئے کہ اسپیکر آن ہے اور فلاں بھی آپ کی بات سن رہا ہے، تاکہ وہ محتاط ہو کر گفتگو کرے اور ایسی بات نہ کرے جو اس تیسرا شخص سے چھپانے والی ہو۔ بعض دفعہ دوست آپس میں اس بات کا خیال نہیں رکھتے یا جان بوجہ کر ایسا کرتے ہیں جس کی وجہ سے دو لوگوں کے درمیاں غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔

\* کانفرنس کال میں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیئے۔

\* مسجد میں موبائل پر دنیا وی باتیں کرنا مسجد کے ادب کے خلاف ہے۔

\* اگر کسی محفل یا مجلس میں کال آجائے تو ایک طرف ہو کر یا آہستہ آواز میں بات کرنی چاہیئے تاکہ دوسروں کی تشویش کا باعث نہ بنے۔

مسجد میں موبائل بند رکھیں

\* مسجد میں داخل ہوتے ہی موبائل فون آف کر دین، یا بالکل سائلنٹ کر دین، بہتر یہ ہے کہ "بیپ ون" یا "وائبریشن" پر بھی نہ چھوڑیں کیونکہ نماز کے دوران اس سے دھیان کال کی طرف جائے گا جو کہ نماز کے خشوع کے خلاف ہے۔

نماز میں موبائل بند کرنا بھول گئے تو

\* اگر بند کرنا بھول گئے اور نماز کے دوران موبائل بجئے لگے تو عملِ کثیر سے بچتے ہوئے ایک ہاتھ سے موبائل فون بند کرنے کی اجازت ہے، عملِ کثیر وہ عمل ہے کہ جس کو نمازی کو کرتے ہوئے دیکھ کر، دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ شخص نماز نہیں پڑھ رہا، اس سے نمازوٹ جاتی ہے۔ یاد رہے کہ موبائل بند کرنے کیلئے نماز توڑنے کی اجازت نہیں۔

نماز میں دوسرے کا موبائل بجے تو کیا کریں

\* اسی طرح اگر کسی اور کے موبائل کی گھنٹی بجئے لگے تو اگر دوسرے کیلئے موقع ہو تو وہ اس کے موبائل کو بند کر دے۔

\* اگر کوئی شخص غلطی سے موبائل بند نہ کر سکا اور جماعت کے دوران گھنٹی بجئے لگی تو نماز ختم ہونے کے بعد اس کو پیار سے سمجھا دینا چاہیئے، لیکن سب نمازیوں کا اس کو گھور گھور کر دیکھنا یا اس کو زور سے سب کے سامنے ڈالنا، اس کی تذلیل کرنا یا حقارت آمیز رویہ اختیا کرنا اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، بہتر یہ ہے کہ اما م صاحب ایک عمومی نصیحت فرمادیں تاکہ اور لوگوں کو بھی یاد دھیانی ہو جائے۔

گانا رنگ ٹون پر لگانا

\* موبائل میں گانے والی رنگ ٹون لگانا جائز نہیں، اور اگر خداخواستہ مسجد میں گانے والی ٹون بج اٹھی تو اس میں کئی گناہوں کا وہاں سر پر آ جاتا ہے، خود گانا سننے کا گناہ، دوسروں کو سنانے کا گناہ، مسجد کی بے حرمتی کا گناہ، دوسروں کی نماز خراب کرنے کا گناہ۔

تلاوت یا نعت رنگ ٹون پر لگانا

\* گھنٹی کے طور پر قرآن کی آیت بھی لگانامنع ہے، کیونکہ اس میں قرآنی آیت کو کال آتے کی اطلاع کے طور پر استعمال کرنا لازم آئیگا جو کہ جائز نہیں، اور اگر قرآن کی آیت کو لگانے سے مقصود تلاوت سننا یا نصیحت حاصل کرنا ہے تو بھی اس میں بے ادبی کا اندیشه ہے کیونکہ بعض دفعہ موبائل ایسی جگہ ہوتا ہے جہاں تلاوت مناسب نہیں ہوتی، اسی طرح بعض دفعہ آیت درمیان میں سے کٹ جاتی ہے۔

\* اسی طرح نعت کو بھی گھنٹی کے طور پر لگانا مناسب نہیں۔

آیت یا حدیث ایس ایس کرتے ہوئے احتیاط

\* اگر ایس ایس میں قرآنی آیت لکھنی ہو تو صرف عربی میں لکھنی چاہیئے کسی اور رسم الخط میں قرآنی آیات لکھنا منع ہے، البتہ باحوالہ ترجمہ انگریزی یا رومان اردو میں لکھ سکتے ہیں۔

\* احادیث کے الفاظ بھی عربی رسم الخط کے بغیر نہیں لکھنی چاہئے، کیونکہ اس میں غلط پڑھے جانے کا امکان ہے، بہتر یہ ہے کہ حدیث کا مفہوم لکھ دیا جائے۔

میسیج فارورڈ کرتے ہوئے تحقیق

\* احادیث پر مشتمل ایس یم ایس بغیر تحقیق کے نہیں لکھنا چاہیئے اور نہ ہی ایسے میسیج کو آگے فارورڈ کرنا چاہیئے بلکہ پہلے تحقیق کرنی چاہیئے کہ یہ واقعہً حدیث ہے یا نہیں، آجکل بہت سارے من گھڑت احادیث پر

مشتمل ایس ایس رائق ہیں۔

آیات اور حدیث کی عبارت ڈیلیٹ کرنا

\* قرآنی آیا ت یا احادیث پر مشتمل میسج کو پڑھنے کے بعد ڈلیٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں، البتہ بلا عذر، بغیر پڑھنے ڈلیٹ نہیں کرنا چاہیئے، اگر کوئی عذر ہو مثلاً ایسے میسجز اتنے زیادہ آتے ہوںکہ سب کو پڑھنا دشوار ہو تو بغیر پڑھنے بھی ڈلیٹ کرنے کی اجازت ہے، اس میں گناہ نہیں ہے۔

موبائل اگر ناپاک ہو جائے

\* اگر موبائل ناپاک ہو جائے تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو حصہ ناپاک ہوا ہے وہ دھونے سے خراب نہیں ہوتا تو اس کو تین دفعہ دھوکر پاک کر لیں، اور اگر خراب ہوتا ہو تو گیلے کپڑے سے اس جگہ کو تین دفعہ پونچھ لیں، یا پٹرول، اسپرٹ سے صاف کر لیں۔